



سوال

(601) حلالہ کی تعریف

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

حلالہ کیا ہے، وضاحت فرمادیں؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

حلالہ یہ ہے کہ کسی مطلقہ عورت کا، (اس کو اس کے پہلے خاوند کے لئے حلال کرنے کی غرض سے)، کسی دوسرے مرد کے ساتھ ایک متعین وقت کے لئے نکاح کر دیا جاتا ہے، پھر وہ اس مدت کے پورا ہونے کے بعد اس عورت کو طلاق دے دیتا ہے اور پہلا خاوند اس سے دوبارہ نکاح کر لیتا ہے۔

یہ طریقہ نکاح قطعاً جائز نہیں ہے، بلکہ نبی کریم ﷺ نے لعنت فرمائی ہے:

«لعن اللہ الخلل والخللہ» أوداد کتاب النکاح باب فی الخلل والخللہ (۱۱۱۹)

”حلالہ کرنے والے اور جس کے لیے حلالہ کیا جائے ان دونوں پر اللہ کی لعنت ہو۔“

لغت حدیث کی معروف کتاب التہذیب فی غریب الاثر والحدیث لابن اثیر ۱/۴۳۱ میں حلالہ کی تعریف یوں کی گئی ہے:

«جوآن یطلق رجل امرأته ثم یزوجها رجل آخر علی شرط بعد وطلعتا بعد وطلعتا لرجل لرجل الأول»

حلالہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دے تو اس عورت کے ساتھ دوسرا آدمی اس شرط پر نکاح کرے کہ وہ اس عورت سے جماع کرنے کے بعد اس کو طلاق دے دے گا تا کہ وہ عورت پہلے خاوند کے لئے حلال ہو جائے۔

احناف کی فقہی اصطلاح پر لکھی گئی کتاب القاموس الفقہی کے صفحہ ۱۰۰ پر مَحْلَل (حلالہ کرنا) کی یہ تعریف درج ہے:

«المَحْلَل: جو المرء یزوجها ثم یطلق لرجل الأول و فی الحدیث الشریفة لعن اللہ المحلل والمحلل لہ»

